

ای میل اکاؤنٹ کیسے بنایا جائے

بہت سے مختلف ای میل پرووائیڈرز موجود ہیں جنہیں ای میل اکاؤنٹ بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ سب تقریباً ایک ہی طرح کام کر رہے ہیں۔

مقبول پرووائیڈرز میں شامل ہیں:

- جی میل
- آؤٹ لک
- یاہو
- اے او ایل

ہدایات


جی میل پر اکاؤنٹ بنانے کے لئے ہدایات یہ ہیں۔

۱۔ اپنا ڈیوائس کھولیں۔

۲۔ انٹرنیٹ براؤزر کے آئیکن پر کلک کریں۔ وہ کچھ اس طرح نظر آئے گا۔



۳۔ سرچ بار میں جی میل ٹائپ کریں اور ریٹرن کا بٹن دبائیں۔



۴۔ جی میل کے لنک پر کلک کریں

Gmail

mail.google.com/mail?hl=en-GB

Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

[Learn more](#)

۵۔ کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں۔



۶۔ دیئے گئے خانے میں اپنی تفصیلات ٹائپ کریں۔

۷۔ پاس ورڈ کا انتخاب کریں۔ مضبوط پاس ورڈ بنانا انتہائی اہم ہے۔ لمبا پاس ورڈ بنانے کی

کوشش کریں جس میں نمبرز، سمبلز، اپر اور لوئر کیس لیٹرز شامل ہوں۔

۸. نیکسٹ پر کلک کریں۔



آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق کے لئے موبائل فون نمبر فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنا نمبر ٹائپ کریں اور سینڈ پریس کریں۔ آپ کو گوگل کی جانب سے ٹیکسٹ موصول ہوگا جس میں کوڈ ہوگا۔

۱۰. اپنے ڈیوائس پر کوڈ لکھیں اور ویری فائے پر کلک کریں یہ ایک ٹک کی طرح دکھائی دے گا۔



۱۱. اپنی کچھ مزید ذاتی معلومات درج کریں جیسا کہ آپ کا نام، تاریخ پیدائش۔

۱۲. نیکسٹ پر کلک کریں۔



آپ سے گوگل سروس کی پرائیوسی پالیسی اور شرائط پڑھنے کو کہا جائیگا پھر آئی ایگری پر کلک کریں۔



۱۳۔ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا۔



Elena Casarosa
ecasarosa3@gmail.com
Privacy



۱۴۔ اپنا اکاؤنٹ استعمال کرنے کے لئے

www.gmail.com پر جائیں اور اپنا ای میل ایڈریس (یوزرنیم، پاس ورڈ) ٹائپ کریں اور

نیکسٹ پر کلک کریں۔



۱۵۔ آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ میں لوگ ان ہوچکے ہیں۔ اپنے ای میل اکاؤنٹ سے باہر آنے کے لئے سائن آؤٹ کے آئیکن پر کلک کریں۔



مزید تعاون

مانچسٹر ڈیجیٹل چیمپینز کی جانب سے فون پر معاونت
آپ کے پاس ایسا ڈیوائس ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے؟
اس کے استعمال کے لئے مدد کی ضرورت ہے؟
ہمارے پاس ڈیجیٹل چیمپینز کی ٹیم موجود ہے جو ٹیلی فون پر مانچسٹر کے
رہائشیوں کو مدد فراہم کرے گی۔
پندرہ زبانوں میں کالز کی جاسکتی ہیں۔
07860 064128 پر کال کریں۔ یا
digitalinclusion@manchester.gov.uk پر ای میل کریں۔
اپنا نام بتائیں ہم آپ کو خود کال کریں گے اور مدد فراہم کریں گے

کووڈ 19 کے دوران رابطے میں رہیں

آن لائن آنے کے لئے اگر آپ کو مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے تو کمیونٹی
کووڈ 19 سپورٹ ہیلپ لائن کے نمبر
0800 2346123 پر کال کریں۔

digitalinclusion@manchester.gov.uk پر ای میل کریں ---

مزید معلومات کے لئے:

https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_connected_through_covid-19_leaflets

This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations:



MANCHESTER
CITY COUNCIL

All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice. We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest downloadable version: <https://buzzmanchester.co.uk/>

For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or lorna.dawson@gmmh.nhs.uk

[Version 7 Android_Urdu_October 2020]